

انجيل زاگان ء پښ

ماس پس



نوح او مزنيں

سيلاب



نوشتہ کار: Edward Hughes

السرکار: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

اپنائنگکار: M. Maillot; Tammy S.

مترجم کار: www.christian-translation.com

پیداوار کار: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



نوح اما مژدم ات كه خدا ء
پرستش كرت۔ هر يك خدا ء
تباہ او نفرت كرت، خدا يك ہجم
كنوكين چيز ء گفت۔ " من اے لالچي
دنيا ء تباہ كناں، " خدا

نوح ء
گشت۔

"بس تہو او تہي
خاہوت
محفوظ
بہئے۔"



خدا نوح ء خبر دار كړت كه يك مزنيں سيلاب
ء كيت او زمين ء كورۍ- " داري ء كشتي
ء ټهائڼ، يك كشتي ء كه تهي خابوت او
بهازيں جناوران ء په بس بيى، " نوح
ء حكم دات بوت. خدا نوح ء برابر ء
هدايت دات. نوح
مصروف بوت.



مردمان شغل کرتنت وخته
که نوح آئياناں گوشت
که چه ۽ په کشتی
ٹہانگیں۔

نوح ٹہانگ
روان کرت۔ آ
مردماناں خدا ۽ بارہ ۽
گشگ ہم روان کرت۔
کس نہ ہشکنت۔



نوح ء مزنيں ايمان بو۔ انگہ
کہ آئی ہچ پیش ہور نہ بوت۔
زوت کشتی چیزانی ہیر
کنگ ء تیار ات۔



نو جناور اتنت۔ خدا پر نسل بچ ء ہفت یارٹ، دو دگہ یانچہ۔
چک مزنین او کسانین، جناور گنڈیں او دراجین وتی راہ ء
کشتی ء تیار کڑت۔



شائد مژدماں نوح ء ٹھوک دانتت وخت ء
کہ آ جناور آناں کشتی آ پیر کڑت،
آ خدا ء بد فعلی آ رواں کڑتنت۔
آ کشتی ء تہا سوار بیگ
ء نہ پر سنتنت۔






بلاخر، كل
ء جناور او چك
سوار اتنت، "كشتى
ء تها بها انت،"
خدا نوع ء دعوت دات.
"تهو او تهى خاندان- "كشتى-
نوح، آئى ء جنين- آئى ء سه
زاگان او آئيانى جنينان كشتى ء تها
سوار بوتنت- پدا خدا در انان بند كو!



پدا ہور یات۔ یک
مزنیں شنزئی ء ہور
چل شپ او روز زمین
ء تر کڑت۔





سيلاب ۽ آڀ شهر او
قصبه آن ۽ مان يات. وخته ڪه پور
اشتات، انچو ڪوهاڻ زير آڀ اتنت. هر
چيز ۽ ڪه دم گرتت مرتت.



چو آپ زیات بوئگ شروع
بو، کشتی سرا تار جت. تها
تہار بوئگ بیت. شائد
ویران، شائد ہوفناک. مگہ
کشتی نوح ء پناہ دات.



پنچ ماہ ۽ سيلاب ٻچ پيش، خدا استه ٻشڪ
کنوڪين هوا ديم دات، کشتي ٻرارات ۽ ٻرڙ
۽ ڪوٻاناں اآ رام ڪرڙت. نوح دومى چل
روز بوت چو آپ ڪم بو.



نوح کشی ء پیچ ء کھڑکی ہچ یک کواڑا او یک کیوت ء دیم
دات، آرام بہ پہ ہشکن جاہ نہ گندک ء کیوت پس نوح ء کر
ء یات۔





ہفتہ ء پد، نوح پس کوشست
کرت۔ کپوت وتی ٹونبو ء تھا
زیتون ء پن ء گونا پس یات۔
او پدا نوح زانت کہ زمین پشک
انت چہ ء پہ کہ کپوت
پس نہ یات۔




خدا نوح ۽ گوشت که همی وخت انت که
کشتی ۽ پله بدان۔ یکجاء، نوح او آئی ۽
خابوت جنورانان جالا کڑتنت۔



چقدو نوح شکر
گزار پحسوس کڙتگ
بوتنت! آیک قربان
جاه ۽ ٺهائنت او خدا ۽
عبادت ۽ کڙت که آئی ۽
او آئی ۽ خابوت ۽ هوفناکین
سیلاب بیچ ۽ پحفوز
کڙت۔





خدا نوح ء يك گچينن و عده
ء دات. كه آ انسان ء گناہانی

فيصله ء پس سيلاب
ديم نه دان. خدا وتی
و عده ء گچينين ياد کری
ء دات. بی بی ء گندار خدا
ء وعده ء نشانی انت.



سيلاب ٻچ ۽ پڊ نوح

او آئي ۽ خاندان نوکين شروع ۽

ديستنتت. وخت ۽ تها، آئي ۽ اولادان

کل ۽ زمين آ دواره آباد ڪرڻتنت.

زمين ۽ کل قوم نوح و آئي

۽ زاگانچه ياتان.



نوح او مزنيں سيلاب

يک قصه ء خدا ء لوزان، انجيل

تہا دیدگ بوتا

جينسز 6-10

"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119





انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانى کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آئارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہار دوست کنت او آوتی پاک ء زاگ چیزس ء
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناپانی معافی لوٹے،
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:
جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ
پہ زندگ بیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

